

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
نئی دہلی

03 اکتوبر 2020

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مشیرالحسن میموریل لیکچر کا انعقاد

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مشیرالحسن انڈومنٹ (ایم ایچ ای) کے تعاون سے یکم اکتوبر 2020ء کو پہلا مشیرالحسن میموریل لیکچر کا اہتمام معروف مورخ مرحوم پروفیسر مشیرالحسن کی یاد میں منعقد کیا جو 2004-2009 تک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر تھے۔

پروفیسر سوگاتا بوس ، گارڈینر پروفیسر آف ہسٹری ، ہارورڈ یونیورسٹی ، "قومیت کے دور میں ایشیائی عالمگیریت" پر آن لائن لیکچر دیا۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے پروفیسر مشیرالحسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لیکچر کہا وہ تقریباً 3 دہائیوں سے تاریخ کے استاذ اور بطور وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ تھے۔ انہوں نے جامعہ کے سو سال کے مکمل ہونے کا ذکر کیا اور کہا آج جامعہ ملیہ اسلامیہ بہترین سنٹرل یونیورسٹیوں میں اول نمبر ہے۔

پروفیسر سوگاتا بوس ، جو جدید ہندوستان کے نامور مورخ ہیں ، نے مہاتما گاندھی اور رابیندر ناتھ ٹیگور جیسے ہندوستانی قومی تحریک کے نامور قائدین کے کردار پر بات کی ، اس کے علاوہ 20 صدی میں سن-یات-سین جیسے جدید چینی قوم پرست جو ایشیائی عہد عالمگیریت کے حامیوں اور دوسرے نصف حصے میں دوسرے ایشیائی ممالک کی جارحانہ قوم پرستی کی وجہ سے جو یورپی اقسام کی سامراجی پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔

پروفیسر بوس نے عصر حاضر کی ایشیائی طاقتوں میں بہتر تفہیم لانے کی تاکید کی ، جنہیں عالمگیر قوم پرستی کے ایک نئے آزاد جامع مثالی اقدار کو اپناتے ہوئے تنگ قوم پرستی سے پاک مستقبل کو یقینی بنانا چاہئے۔

ڈاکٹر زویا حسن ، پروفیسر ایمریطس، جے این یو نے ، ایک مورخ کی حیثیت سے اور جدید جامعہ کے تعمیر کنندہ کے طور پر ، ایک عالمگیر نظریہ اور مشن کے حامل ، مشیر الحسن کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔

پروفیسر اسدالدین ، ڈین ، اسکول آف ہیومنٹیٹیز اینڈ لینگویجز نے مشیر الحسن شخص اور شخصیت کے عنوان سے گفتگو کی، اور کہا پروفیسر حسن کو مزاح کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ اور جمالیات سے عشق تھا۔

پروفیسر بوس کے لیکچر پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے جے این یو کے پروفیسر ایمریطس ، ڈاکٹر پرہات پٹنائک نے کہا کہ ایشیاء خصوصاً ہندوستان سے جب غربت اور عدم مساوات کا صفایا ہو جائے گا تو ایشین اتحاد اور عالمگیر ازم کے نظریات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہندوستان کو ایک حقیقی فلاحی ریاست کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے جو سب کے لئے عالمی سطح پر کم سے کم آمدنی کی ضمانت دے۔

مشیر الحسن میموریل لیکچر کا اختتام کوآرڈینیٹر پروفیسر رومی باسو ، شعبہ پولیٹیکل سائنس کے کلمات تشکر ہوا ۔

احمد عظیم
پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر